

BEFORE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR.

SERVICE APPEAL NO. 948/2013

Date of institution ... 31.05.2013

Date of judgment ... 08.11.2016

Basreen Bibi D/O Raj Ali Khan,
PST Teacher GGPS Kotka Mira Jan Dandi Wazir, Bannu.

... (Appellant)

VERSUS

1. District Education Officer(Femal)Primary & Secondary Bannu.
(Ex-DO E&SE Bannu)
2. Director Elementary and Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
3. Secretary, Elementary and Secondary Education Govt: of Khyber Pakhtunkhwa,
Peshawar.

... (Respondents)

APPEAL UNDER SECTION-4 OF KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL ACT, 1974, FOR THE RELEASE OF PAY W.E.F 31.12.2009 TILL DATE WITH ARREARS OF ALLOWANCES ETC FOR WHICH THE DEPARTMENTAL APPEAL OF THE APPELLANT HAS NOT BEEN RESPONDED SO FAR, DESPITE THE LAPSE OF STATUTORY PERIOD.

Mr. Umer Zad Shah Bukhari, Advocate.
Mr. Kabir Ullah Khattak, Assistant Advocate General

.. For appellant.
.. For respondents.

MR. MUHAMAMD AAMIR NAZIR
MR. PIR BAKHSH SHAH

.. MEMBER (JUDICIAL)
.. MEMBER(JUDICIAL)

JUDGMENT

MUHAMMAD AAMIR NAZIR, MEMBER: Basreen Bibi D/o Raj Ali Khan,
hereinafter referred to as appellant, through the instant appeal under section-4 of Khyber
Pakhtunkhwa service Tribunal Act 1974 has prayed for release of her salary w.e.f 31.12.2009

till date alongwith arrears for which the appellant had filed departmental appeal but the same was not responded within the statutory period.

2. Brief facts of the case giving rise to the instant appeal are that the appellant joined the respondent-department as Primary School Teacher on 31.12.2009 and since then she is performing her duties with honesty and full devotion. That despite the fact that since her appointment, the appellant is regularly performing her duties, yet she has not received her monthly salaries alongwith connected allowances till date. That the appellant time and again approached respondents to release her monthly salary but of no avail. That the appellant even approached to the court of Senior Civil Judge, Bannu for that purpose on 22.3.2013 but her plaint was returned vide order dated 05.12.2012. That the appellant filed departmental appeal on 15.02.2013 which was not responded within the statutory period, hence the instant appeal.

3. Learned counsel for the appellant argued before the court that the appellant was appointed as Primary School Teacher vide appointment order dated 31.12.2009 and since then she is regularly performing her duties. That despite the fact that she is performing her duties, yet no salary has so far been paid to the appellant. That the respondents were time and again approached by the appellant for release of her monthly salary but of no avail. That the appellant finally approached to the court of Senior Civil Judge, Bannu but her plaint was returned by the court vide order dated 05.12.2012 wherein it was held that as the appellant is a civil servant, therefore, this court has got not jurisdiction. That since the appellant was regular appointed as Primary School Teacher in the year 2009 and till then she is performing her duties, therefore, by acceptance the instant appeal the respondent be directed to release her salaries and related allowances.

4. The learned Assistant A.G, while rebutting the arguments advanced by the learned counsel for the appellant, argued before the Tribunal that the appellant is not an employee of the respondent-department. That the impugned appointment order is fake and factitious. That a fact finding enquiry was conducted wherein it was held that the appointment order of the

OK
08.11.2016

appellant is fabricated one and there is no record of her appointment order with the respondent-department. That the appellant committed fraud, therefore the instant appeal may be dismissed with cost.

5. We have heard arguments of learned counsel for the appellant and learned Assistant A.G for the respondents and have gone through the record available on file.

6. Perusal of the case file reveals that the appellant claim be appointed as Primary School Teacher vide impugned order dated 31.12.2009 bearing endst: No.23000-5. The appellant further claim that since she has regularly been appointed as PST Teacher vide order referred above, therefore, respondents be directed to release her monthly salaries as she has been performing duties as PST since her appointment. The respondents on the other hand denied the appointment of the appellant as PST vide impugned order dated 31.12.2009 and in this respect they had conducted a fact finding enquiry. The fact finding enquiry available on file reveals that respondents have never issued any appointed order to the appellant and the one which was produce by the appellant is fabricated, having no record. It was further held in the fact finding enquiry that the date/year in which the appellant claim her appointment, the respondents have never made such order on the above date and year.


7. The learned counsel for the appellant in his arguments claim that since the Civil Court vide order dated 05.12.2012 returned the plaint to the appellant on the pretext that she is civil servant, therefore the appellant is prima-facie a civil servant as held by the Civil Court and the respondents cannot deny her appointment order as PST. This arguments advanced by the learned counsel for the appellant carry no weight for the reason that the appellant in her plaint claim to have been appointed as PST, therefore the learned Civil Court without hearing the respondents, vide order dated 05.12.2012 returned the plaint to the appellant under Order-7 Rule-10-CPC stating therein that the perusal of the plaint shows that the appellant/plaintiff is civil servant and that this court has got no jurisdiction into the matter in hand. The civil court had never declared the appellant as civil servant on merits. Hence, in the above stated

Vk
08.11.2016


circumstances, we are of the considered view that the impugned appointment order of the appellant is factitious and fabricated having no record with the respondent-department, therefore, the appeal in hand is dismissed with cost. File be consigned to the record.

8. This judgment will also dispose of other connected Appeal bearing No. 960/2013 by Samreena Bibi, involving common question of law, in the same manner.

ANNOUNCED
08.11.2016



(PIR BAKHSH SHAH)
MEMBER




(MUHAMMAD AAMIR NAZIR)
MEMBER

31.05.2016

Counsel for the appellant and Ziaullah, GP for respondents present. Rejoinder submitted which is placed on file. To come up for arguments on 19.8.2016.



Member


Member

19.08.2016


Counsel for the appellant M/S Mst. Razia Bibi, DEO (F) and Sher Zali Khan, Assistant alongwith Mr. Usman Ghani, Sr, GP for respondents present. Counsel for the appellant requested for adjournment. Request accepted. To come up for arguments on 08.11.2016.

08.11.2016

Member  Member 
Counsels for the appellant and Mr. Kabirullah Khattak,
Assistant Advocate General for respondents present.

Vide our detailed judgment of today consists of three pages placed on file, we are of the considered view that the impugned appointment order of the appellant is factitious and fabricated having no record with the respondent-department, therefore, the appeal in hand is dismissed with cost. File be consigned to the record.

Announced
08.11.2016



(MUHAMMAD AAMIR NAZIR)
MEMBER



(PIR BAKHSH SHAH)
MEMBER

13.04.2015

Mr. Naheedullah on behalf of the appellant and Mr. Ashrafullah, ADO alongwith Addl: A.G for respondents present. Para-wise comments submitted. The appeal is assigned to D.B for rejoinder and final hearing for 2.10.2015.


Chairman

02.10.2015

Mr. Nahedullah, on behalf of the appellant and Mr. Sher Zali Khan, Assistant (Lit.) alongwith Asst: AG for the respondents present. Arguments could not be heard due to general strike of the Bar. To come up for arguments on

16.2.16


Member


Member

16.02.2016

Counsel for the appellant, M/S DEO (F) Bannu in person and Hameed-ur-Rehman, AD (lit.) Assistant AG for respondents present. The learned Member (Executive) is on official tour to Abbottabad, therefore, Bench in incomplete. To come up for arguments on

31-5-2016


Member

09.12.2014

Mr. Naheedullah attorney for the appellant and Mr. Muhammad Adeel Butt, AAG for the respondents present. The Tribunal is incomplete. To come up for written reply/comment on 26.03.2015.



Reader.

8-

26.03.2015

Mr. Naheedullah on behalf of the appellant, M/S Farzand Ali, Assistant and Khurshid Khan, SO alongwith Addl: A.G for respondents present. Written reply not submitted. Requested for further adjournment. Perusal of record would reveal that last opportunity was granted to the respondents for written statement on 26.8.2014 but despite the same written statement is not submitted till date. Let the respondent No. 3, Secretary, Elementary and Secondary Education, KPK be informed of the conduct of the relevant respondents i.e DEO (Female) Primary & Secondary Bannu and Director, E & SE, KPK, Peshawar. Last opportunity is extended to 2.4.2015.



Chairman

9-

02.04.2015

Mr. Naheedullah on behalf of the appellant and Mr. Barkat Ali, Litigation Officer for respondent No. 1 alongwith Addl: A.G for respondents present. Requested for further adjournment due to tracing out certain documents. A stern warning was issued to the representative as well as Addl: A.G with the stern direction to submit written statement by 13.4.2015 before S.B.



Chairman

948/13

Appellant deposited
Security process
fee Rs 180/- Bank
receipt is attached
with file

15.01.2014

Since 14th January has been declared as public holiday on account of "Eid Milad-un-Nabi". Therefore, case is adjourned to 28.2.14

Reader

28.2.2014

Mr. Naheed Khan, attorney for the appellant, on behalf of the appellant, M/S Sanobar Khan, ASDO for respondent No. 1, Sajjad Rashid, AD for respondent No. 2 and Khurshid Khan, SO for respondent No. 3 with AAG present. Power of attorney filed on behalf of the appellant. To come up for written reply/comments alongwith connected appeals on 15.5.2014.

15.5.2014.

Mr. Nahid Khan, attorney for the appellant ~~and~~ Mr. Sanobar Khan, ASDO on behalf of respondent No.1 with AAG for the respondents present. Written reply has not been received, and request for further time made on behalf of the respondents. Another chance is given for written reply/comments, positively, on 26.8.2014.

Chairman

26.08.2014

Mr. Naheedullah, attorney for the appellant, on behalf of the appellant, M/S Shah Qias, Assistant for respondent No. 1, Sajjad Rashid, AD for respondent No. 2 and Khursheed Khan, SO for respondent No. 3 with AAG present. Written reply has not been received despite another chance given for the purpose on the previous date. On the request of the representatives of the respondents and learned AAG, a last chance is given to the respondents for written reply/comments on 09.12.2014


CHAIRMAN

Appeal No. 948/2013
Mst. Busreen Betei


06.08.2013


Appellant with counsel present and heard on preliminary.

3.
Contented that the appellant has not been treated in accordance with the law/rules. She was appointed as PTC Teacher in Education Department vide order dated 31.12.2009, and submitted charge report on 04.01.2010 and since then performing her duties but monthly pay with all connected allowances and back benefits have not been paid to her without any fault on her behalf. The appellant time and again approached respondents and submitted so many applications for release of her salaries and other connected allowances etc but with no response. She also filed application before the Senior Civil Judge Bannu which was decided vide order dated 05.12.2012, whereby the appellant was declared as a civil servant. Finally she filed application for release of pay on 15.2.2013 which has not been responded within the statutory period, hence the present appeal. Points raised need consideration. The appeal is admitted to regular hearing subject to all legal objections. The appellant is directed to deposit the security amount and process fee within 10 days. Thereafter, notice be issued to the respondents. Case adjourned to 06.11.2013 for submission of written reply.



Member.

06.8.2013

This case be put before the Final Bench  for further proceedings.


Chairman

6-11-13

4.
The Honorable bench is very busy
case is adjud 10-28-2-14.

Recd

The appeal of Mst. Basreen Bibi D/O Raj Ali Khan received today i.e. on 29/05/2013 is incomplete on the following scores which is returned to the counsel for the appellant for completion and resubmission within 15 days.

1- Copy of application mentioned/shown in the Index of the appeal at serial No.4 is not attached with the appeal which may be placed on it.

2- Page No. 12 & 13 are missing which may be placed on file.

3- Annexures of the appeal may be attested.

NO. 841 S.T.,

Dt. 31/05 /2013.

600
REGISTRAR
KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR.

UMAR ZAD SHAH BUKHARI ADV.
HIGH COURT BANNU.

Sir,

Resubmitted after its completion

بهرین

6-6-2013

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL K.P PESHAWAR

Service Appeal No 948/2013

Basreen Bibi D/O Raj Ali Khan, PST Teacher GGPS Kotka Mira Jan
Dandi Wazir, Bannu

Appellant

VERSUS

1. District Education Officer (Female) Primary & Secondary Bannu (Ex-DO E & S Education Bannu)
2. Director Elementary and Secondary Education, K.P Peshawar.
3. Secretary, Elementary and Secondary Education Govt. of K.P Peshawar.

Respondents

INDEX

SNo	Description of Documents	Annexure	Pages
1	Service appeal with affidavit		1 to 3
2	Application for the interim relief		4
3	Copy of appointment order & Charge Report	A	5 + 6
4	Copy of application for salary - <i>Allondame</i>	B	7-8 to 14
5	Copy of plaint & order <i>Register</i>	C & D	15 to 24
6	Copy of departmental appeal dated <i>15/2/2013</i>	E	25
7	Wakalatnam		26
8			
9			

Appellant

Dated: 29/05/2013

Bukhari
Through

Umer Zad Shah Bukhari

Advocate Bannu

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL K.P PESHAWAR

Service Appeal No 9482013

Basreen Bibi D/O Raj Ali Khan, PST Teacher GGPS Kotka Mira Jan Dandi Wazir, Bannu

Appellant
986
29-5-13

VERSUS

1. District Education Officer (Female) Primary & Secondary Bannu (Ex-DO E & S Education Bannu)
2. Director Elementary and Secondary Education, K.P Peshawar.
3. Secretary, Elementary and Secondary Education Govt. of K.P Peshawar.

Respondents

APPEAL U/S 4 OF THE K.P SERVICE TRIBUNAL ACT 1974. FOR THE RELEASE OF PAY W.E.F. FROM 31-12-2009 TILL DATE WITH ARREARS OF ALLOWANCES ETC FOR WHICH THE DEPARTMENTAL APPEAL OF THE APPELLANT HAS NOT BEEN RESPONDED SO FAR, DESPITE THE LAPSE OF STAUTORY PERIOD.

PRAYER:-

On acceptance of the appeal appropriate directions may please be issued to the respondents to act in the matter in accordance with law and to release monthly salaries to the appellant w.e.f. 31-12-2009 till date with arrears of allowances and connected benefits.

Respectfully Submitted:-

1. That the appellant joined the respondent Department as Primary School Teacher on 31-12-2009, received charge on ~~31-12-2009~~ and since then she performed her duties with honesty and full devotion. (Copy of appointment order and charge transfer certificate are enclosed as Annexure A).

That since appointment the appellant is regularly performing her duties to the entire satisfaction of superior officers but strange enough that since appointment the monthly pay with all connected allowances and back benefit have not been paid to her without an omission or commission on her part. (Copy of attendance register with respondents custody is enclosed as Annexure B).

re-submitted to-day
and filed,

Registrar

3. That the appellant time and again approached respondents and submitted so many applications for the release of her monthly salaries and other connected allowances etc but no fruitful result came out.
4. That even the appellant approached the Court of Senior Civil Judge Bannu for the purpose on 22/3/2012 (Civil Judge No.05 Bannu) which plaint was returned to the appellant vide order dated 5/12/12. (Copy of plaint and order are enclosed as Annexure C & D).
5. That the appellant filed Departmental appeal on 15/02/2013 which has not been responded so far despite the lapse of more than sixty days. (Copy of appeal is enclosed as Annexure E).
6. That the action of the respondents of not releasing the monthly pay with other connected allowances etc of the appellant is against the law, facts and principles of justice on grounds inter alia as follows:-

GROUNDS:-

- A. That respondents have not treated the appellant in accordance with law and rules on the subject and acted in violation of Article 4 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973.
- B. That the appellant has regularly performed her duties with honesty and there is no complaint of any sort against her and she is entitled to the pay and other allowances etc for such period.
- C. That the performance of duty without salary amounts to force labour which is prohibited under Article 11 of the Constitution coupled with other Articles.
- D. That the appellant has not been treated in accordance with law and rules on the subject
- E. That the action of the respondents is against the principles of social justice guaranteed in the Constitution.
- F. That the appellant seeks the permission of the honorable tribunal for furthe/additional grounds at the time of arguments.

It is therefore prayed that appeal of the appellant may kindly be accepted as prayed for in the heading of the appeal.

Any other relief as deemed appropriate in the circumstances of the case, not specifically asked for, may also be granted in favor of the appellant.

Dated 29/05/2013

بهرین
Appellant

ع

Through

Umer Zad Shah Bukhari

Umer Zad Shah Bukhari

Advocate Bannu

AFFIDAVIT

I, Basreen Bibi D/O Raj Ali Khan, PST Teacher GGPS Kotka Mira Jan Dandi Wazir, Bannu do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of the Appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from the honorable Tribunal.

Identified by

Basreen Bibi



29/5/13

بهرین
DEPONENT

Umer Zad Shah Bukhari

Umer Zad Shah Bukhari

Advocate Bannu

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL K.P PESHAWAR

Service Appeal No ___/2013

Basreen Bibi D/O Raj Ali Khan, PST Teacher GGPS Kotka Mira Jan
Dandi Wazir, Bannu

بیرین
Appellant

VERSUS

1. District Education Officer (Female) Primary & Secondary Bannu
(Ex-DO E & S Education Bannu)
2. Director Elementary and Secondary Education, K.P Peshawar.
3. Secretary, Elementary and Secondary Education Govt. of K.P
Peshawar.

Respondents

**APPLICATION FOR THE RELEASE OF CURRENT
SALARIES TILL THE FINAL DECISION OF THE APPEAL**

Respectfully submitted:-

1. That the accompanying appeal is being filed today in which no date
of hearing has been fixed so far.
2. That the grounds of appeal may be considered as integral Part of the
application.
3. That the impugned action of the respondents being void abinitio,
illegal and the result of mala fide and the appellant has a good prima
facie case in her favor.
4. That the appellant is sanguine of her success in the case and the
balance of convenience lies in her favor.
5. That if the impugned order is not suspended the appellant would
suffer an irreparable loss.

It is therefore prayed that on acceptance of the application, the respondents
may kindly be directed to release the current salaries of the appellant till the
final decision of the accompanying appeal.

Dated: 29/05/2013

بیرین
Appellant

Through

Umer Zad Shah Bukhari

Advocate Bannu


4-A

AFFI DAVIT

I, Basreen Bibi D/O Raj Ali Khan, PST Teacher GGPS Kotka Mira Jan Dandi Wazir, Bannu do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of the Appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from the honorable Tribunal.

Identified by

[Handwritten signature]



29/5/13

DEPONENT

[Handwritten signature of Umer Zad Shah Bukhari]

Umer Zad Shah Bukhari

Advocate Bannu

Annexure-A

6

**OFFICE OF THE EXECUTIVE DISTRICT OFFICER, ELEMENTARY & SECONDARY
EDUCATION BANNU**

APPOINTMENT ORDER

On acceptance of Departmental representation filed by Mst. Basreen Bibi D/O Raj Ali Khan and thoroughly examined the case of 15 untrained teachers and objection raised by trained candidates in the light of decision of Honour Peshawar Court bench D.I.Khan in writ petition No. 124/2005 decided on 30/05/2006 and in the concept of equality of law and after recommendation of the departmental recruitment committee constituted for male PTC teacher, the undersigned is pleased to appoint the following female candidates on humanitarian ground from union council as PTC in BPS noted against each as per PTC recruitment policy plus usual allowances as admissible under the existing rules/ policy in the schools noted against each candidates from the date of taking over charge in the best interest of public service subject to the terms / conditions below:-

S.No	Name of Candidate	Father's Name	Address	BPS	Place of Posting	Remarks
1	Basreen Bibi	Raj Ali Khan	Azim Killa Jadid	07	GGPS Kotka Mira Jan Dandi Wazir Bannu	V/ Post

TERMS & CONDITIONS

- 1- His/ Her service will be considered regular but without pension and gratuity in term of Section-19 of NWFP, Civil servant Act, 1973 as amended vide NWFP, civil servant (Amendment) Act, 2005. He will however be entitled to contributory provident Fund in such a manner and such rates as may be prescribed by the Government.
- 2- His/ Her services will be liable to termination on one month's notice from either side, in case of resignation without notice their / his two months pay / allowances shall be forfeited to Govt.
- 3- The appointee should submit their charge report to all concerned.
- 4- His/ Her services can be terminated at any time, in case his / their performance is found unsatisfactory during probationary period. In case of misconduct he/they will be proceeded against under the NWFP removal from service Special ordinance 2000 & the rules framed from time to time.
- 5- Charge should not be handed over if age of the candidate is below 18 years or above 35 years as per Govt. policy / rules.
- 6- The appointee is directed to perform his duties in his respective school noted against his name for a minimum period of one year.
- 7- In case of fake certificates / Degree or any other mistake in the said appointment order detected later on the undersigned reserves the right of amendment their service and disciplinary action will initiated against the teacher concerned.
- 8- He/ She is required to produce health & Fitness Certificate from the Medical Superintendent concerned before taking over charge.
- 9- His/Her original certificate Degree should be verified from the Concerned Board / University / Institution on his own expenses before the release of their pay.
- 10- His/ Her Pay shall not be released before verification of documents.
- 11- The appointee are directed to completed her PTC course with in six years otherwise her appointment will be considered as cancelled.
- 12- No TA / DA etc is allowed.

Sd/-

(BAKHTULLAH SHAH)
EXECUTIVE DISTRICT OFFICER,
ELEMENTARY & SECONDARY
EDUCATION, BANNU.

Endst: No 23000-5

Dated Bannu the 31-12-09

Copy for information & necessary action to the:-

- 1- Secretary Education NWFP Peshawar.
- 2- District Coordination officer Bannu.
- 3- District Office (F) E & S Edu; Bannu
- 4- District Account Officer Bannu.
- 5- Headmistress GGPS concerned Bannu
- 6- Candidate Concerned.

Handwritten signatures and initials:
- A large signature on the left.
- A signature in the middle that appears to read "Bannu".
- A signature on the right that appears to read "Bannu".

Handwritten signature: Bannu
EXECUTIVE DISTRICT OFFICER,
ELEMENTARY & SECONDARY
EDUCATION, BANNU

چارچ رپورٹ

میں مسمیٰ امساۃ لیسریں ولد ادختر (راج علی خان سکونت عظیم حکم جہاں)

بجوالہ.....

ایگزیکٹو ڈسٹراکٹ افسریں۔

نمبر 5-23000 مورخہ 2009-12-31 تختیت اپنے عہدے کا چارج

گورنمنٹ گرنری سکول میراجان خان ڈسٹرکٹ میں
میں قبل اعداد دوپہر مورخہ 2010-04-01 لیا ہے۔

دستخط چارج کنندہ (سندھ)

دستخط چارج کنندہ (سندھ)

(1) نام: لیسریں

(1) نام: حکیم اللہ

(2) مقام: عظیم حکم جہاں

(2) مقام: کوئٹہ میراجان خان ڈسٹرکٹ
بنوں

(3) عہدہ: PST

(3) عہدہ: چوکیڈار

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


خدمت حساب ایلزیکٹیو ڈسٹرکٹ انکوائری آفس صاحب ضلع بنوں

عنوان: درخواست ادائیگی جمع شدہ بقایاات و کرنٹ مایوار درخواست

جناب عالی

گزارش بحضور اذرعہ من سائلہ کی تعیناتی بحیثیت PST مورخہ 2009.12.31 کو
 ہو چکی ہے۔ اور PS 44 میراجان خان ڈھنڈی کلم میں 2010.01.04 اپنی عہدے
 کا چارج سنبھال لیا ہے۔ لیکن تا حال درخواست کی ادائیگی سے محروم ہوں
 چونکہ ابھی تک مذکورہ سکوں پر سائلہ اپنی ڈپٹی آفسن طریقے سے سوانجا آرہی ہے
 لیکن پھر بھی درخواست میں ملتی ہے۔ اور ابھی تک بغیر درخواست کے ڈپٹی کر رہی ہوں
 اس مہنگائی کے دور میں سائلہ کو ذہنی پریشانی کا سامنا کرنی پڑ رہا ہے

لہذا بذریعہ درخواست التماس کیجاتی ہے کہ سائلہ کی جمع شدہ درخواست بمع
 مایوار کرنٹ درخواست (Release) کرنے کے احکاماً صادر فرمادیں

Attest


عین نوازش ہوگی

فقط مورخہ 2010-04-24

العالمی

سائلہ (مذکورہ) کی بی PST 44 PS میراجان خان ڈھنڈی کلم ضلع بنوں

کرامت خانہ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس ضلع بنوں

Annex-B

مخبر: درخواست ثابت جمع شدہ درخواستیں مع کمرٹ ماسٹر اور تھوڑا کہ ادرسیل

پناہ عالی

گزارش ذیل ہے

1۔ یہ کہ سائڈ ٹریم دروازے سے 44PS میراجان خان ڈھنڈھ ماسٹر ڈیوٹی سے اجازت دینے میں

2۔ یہ کہ ایگزیکٹو سائڈ کو تھوڑا نہیں ملے

3۔ یہ کہ ADO صاحب نے بطور 24 $\frac{4}{2010}$ کو بہ نفس نفیس سکول میں اکا دورہ کیا تھا۔

اس کو رتبہ تعلق کا ذکر کیا جس پر اس نے بتایا کہ یہاں دفتر والے چور اور بے ایمان

گورنر ہے۔ اسناد دارانہ میں کوشش کروئی آپ کو جمع شدہ درخواستیں اور کمرٹ تھوڑا مل جائے

چراغ۔ اس سے پہلے بھی متعدد بار درخواستیں دی تھیں۔ لیکن تا حال کچھ نہیں مل سکا

جو کہ یہاں کہ سائڈ کو صرف عدالت کے علاوہ کسی اور کو سپاہیہ نہ رہے۔ اس کے

میں بارہا آئے غور کیا گیا تو سائڈ عدالت کا دروازہ کھلے گا تو

گورنر اسناد دارانہ سے کہ سائڈ کی جمع شدہ درخواستیں، ماسٹر کمرٹ تھوڑا دینے کے احکامات صادر فرمادیں

لیکن گورنر سے

Handwritten signature

Handwritten signature

18.3.2011

الغیر

44PS میراجان خان ماسٹر ڈھنڈھ ماسٹر ضلع بنوں

سائڈ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس بنوں

8

نام	نادیم میر	حکیم اللہ
عہدہ	ہیڈ ماسٹر	پرنسپل

تاریخ	آمد	دستخط	رواگی	آمد	دستخط	رواگی	آمد	دستخط	رواگی	آمد	دستخط	رواگی	دستخط
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7		اتوار											
8	8-30	نادیم		11-30	نادیم								
9	8-30	نادیم		11-30	نادیم								
10	8-30	نادیم		11-30	نادیم								
11	8-30	نادیم		11-30	نادیم								
12	8-30	نادیم		11-00	نادیم								
13	8-30	نادیم		11-30	نادیم								
14		اتوار											
15	8-30	نادیم		11-30	نادیم								
16		رحمتہ											
17		رحمتہ											
18	8-30	نادیم		11-30	نادیم								
19	8-00	نادیم		12-00	نادیم								
20	8-00	نادیم		12-00	نادیم								
21		اتوار											
22	8-00	نادیم		1-00	نادیم								
23	8-00	نادیم		1-00	نادیم								
24	8-00	نادیم		1-00	نادیم								
25	8-00	نادیم		1-00	نادیم								
26	8-00	نادیم		11-00	نادیم								
27	8-00	نادیم		1-00	نادیم								
28		اتوار											
29		مہینہ											
30													
31													

Handwritten signature and scribbles

قسم رخصت	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان
اتفاقہ												
استحقاق												
بیماری												
میزان												

دستخط ہیڈ ماسٹر نادیم میر

شیخ شیشتری سنہ 8 اردو بازار لاہور

9

ریاست محترم صوبہ سندھ کے لیے صوبائی اداروں کی طرف سے منظور شدہ رقموں کی فہرست

2009

بابت ماہ اپریل

نام	نادریم
عہدہ	صدر

نام	نادریم	صدر
عہدہ	صدر	صدر

تاریخ	آمد	دستخط
1	یوم	
2	7/-	نادریم
3	اقوال	
4	7/-	نادریم
5	7/-	نادریم
6	7/-	نادریم
7	صدر	
8	7/-	نادریم
9	7/-	نادریم
10	اقوال	
11	7/-	نادریم
12	7/-	نادریم
13	7/-	نادریم
14	7/-	نادریم
15	7/-	نادریم
16	7/-	نادریم
17	7/-	نادریم
18	7/-	نادریم
19		
20		
21	یوم	
22		
23		
24	5	
25	09	
26		
27		
28		
29		
30		
31		

تاریخ	آمد	دستخط	رواگی	دستخط	آمد	دستخط	رواگی	دستخط	آمد	دستخط	رواگی	دستخط
1	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
2	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
3	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
4	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
5	اقوال											
6	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
7	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
8	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
9	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
10	7/30	نادریم	11-00	نادریم								
11	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
12	اقوال											
13	صدر											
14	صدر											
15	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
16	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
17	7/30	نادریم	11-11	نادریم								
18	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
19	اقوال											
20	صدر											
21	7-30	نادریم	11-30	نادریم								
22	7-30	نادریم	12/-	نادریم								
23	7-30	نادریم	12/-	نادریم								
24	7/30	نادریم	11-00	نادریم								
25	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
26	اقوال											
27	صدر											
28	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
29	7/30	نادریم	12/-	نادریم								
30	7-00	نادریم	11-00	نادریم								
31												

قسم رخصت	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان
انفاقہ												
استحقاقی												
بیماری												
میزان												

دستخط ہیڈ ماسٹر نادریم صدر

محلہ سٹیٹری شورہ 8 اردو بازار لاہور

پندرہ روزہ داروغہ خان داروغہ خان داروغہ خان

(۲۰)

بابت ماہ مئی		۲۰۱۱	
نام	نادیم میر	عہدہ	حکیم اللہ
			جوگندار

تاریخ	آمد	دستخط	رواگی	دستخط	آمد	دستخط	رواگی	دستخط
1	یوم							
2	7/ - ناریم							
3	اقواد							
4	7/ - ناریم							
5	7/ - ناریم							
6	7/ - ناریم							
7	7/ - ناریم							
8	7/ - ناریم							
9	7/ - ناریم							
10	اقواد							
11	7/ - ناریم							
12	7/ - ناریم							
13	7/ - ناریم							
14	7/ - ناریم							
15	7/ - ناریم							
16	7/ - ناریم							
17	7/ - ناریم							
18	7/ - ناریم							
19	7/ - ناریم							
20	7/ - ناریم							
21	7/ - ناریم							
22	7/ - ناریم							
23	7/ - ناریم							
24	7/ - ناریم							
25	7/ - ناریم							
26	7/ - ناریم							
27	7/ - ناریم							
28	7/ - ناریم							
29	7/ - ناریم							
30	7/ - ناریم							
31	7/ - ناریم							

جون ۲۰۱۱
 داروغہ خان داروغہ خان

۱۶ اونی سے تقطیر
 موسم گرمی
 ۵/۹
 ۱۶/۹
 ۳۱/۹

قسم رخصت	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان
اتفاقہ									
استحقاق									
بیماری									
میزان									

دستخط ہیڈ ماسٹر نادیم میر

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

رجسٹر حاضری مدرسین

لاہور کے سرکاری اسکول فانا وصبرنا

2011

بابت ماہ ستمبر

12

نمبر	نادیم میر	بصیرت بیگم	حیدر اللہ
عہدہ	نائب وائس	نائب پرنسپل	پرنسپل

تاریخ	آمد	دستخط	رواگی	آمد	دستخط	رواگی	آمد	دستخط	رواگی	دستخط
1	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
2	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
3	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
4	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
5	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
6	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار
7	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
8	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
9	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
10	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
11	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
12	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
13	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار
14	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ
15	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
16	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
17	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
18	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
19	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
20	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار
21	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ	رحمتہ
22	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
23	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
24	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
25	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
26	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
27	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار	انوار
28	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
29	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
30	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P
31	8:30	نادیم	11:30	نادیم	8:30	بصیرت	11:30	بصیرت	P	P

قسم رخصت	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان
اقاقیہ												
استحقاقی												
پتاری												
میزان												

دستخط ہیڈ ماسٹر نادیم میر

شیخ شیشری شورہ 8 اردو بازار لاہور۔

Handwritten signatures and notes:
 August
 Bukhari
 A

رجسٹر حاضری مدرسین

بابت ماہ جنوری 2019

نام: **نادیم میر** **حکیم اللہ** **بهرین بیگم**

عہدہ: **سرپرست** **جوکلا** **لاہور مدرسین**

Annease-15

تاریخ	آمد	دستخط	رواگی	دستخط	آمد	دستخط	رواگی	دستخط	آمد	دستخط	رواگی	دستخط
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

میرزا ندیم

قسم رخصت	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان
انفاقہ									
استحقاقی									
بیماری									
میزان									

دستخط ہیڈ ماسٹر **بهرین بیگم**

شیخ شیشری سنور 8 اردو بازار لاہور۔

ریجنل حاضری مدرسین

دہلی کے صدر اعلیٰ مدرسین و فقیہان

	ایبیت ماہ ۱۱، ۲۰۱۱			
نام	میر تقی میر		نائب مدرس	نائب مدرس
عہدہ	PST		نائب مدرس	نائب مدرس

تاریخ	آمد	دستخط	رواگی	آمد	دستخط	رواگی	آمد	دستخط	رواگی	آمد	دستخط	رواگی	آمد	دستخط	رواگی
1	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
2	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
3	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
4	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
5	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
6	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
7	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
8	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
9	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
10	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
11	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
12	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
13	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
14	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
15	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
16	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
17	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
18	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
19	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
20	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
21	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
22	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
23	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
24	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
25	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
26	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
27	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
28	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
29	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
30	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر
31	اتوار	7/3	نادر	12/-	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر	7/3	نادر

تہم رخصت	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان	حال	سابقہ	میزان
اتفاقہ												
استحقاق												
بیماری												
میزان												

دستخط ہیڈ ماسٹر نادر میر

شیخ شیشتری سنور 8 اردو بازار لاہور

بہ اللہ جناب سول جج صاحب کی نوبت

بعد ازاں جناب سٹریٹس جج صاحب بنوں -

تہم 46/1 راجہ 12-3-22 بمطابق 5-12-72

Annexure-C

1. سہ ماہ لہنہ بی بی دفتر سعید الرحمن PST - پٹواری

ڈیفنڈی صاحبہ وزیر دافنی ڈوویل بنوں


2. سہ ماہ ثمرینہ بی بی دفتر دیرہ گل PST - سکھ

شیری صاحبہ دافنی ڈوویل بنوں

3. سہ ماہ برین بی بی دفتر راج علی صاحبہ سکھ

عظیم مکہ جہیر دافنی ڈوویل بنوں

مدعیان

22/3/22
Answer


VERSUS

1. EDO - ریگزیٹو ڈیپارٹمنٹ انٹرنیٹ حکیم ایجوکیشن بنوں

2. سیکریٹری تعلیم ہونہ پٹوخواہ لیاور -

3. ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر ایجوکیشنل آفیس بنوں

4. ایجوکیشنل آفیسر فیمل سیکشن ایجوکیشن آفیس بنوں

5. ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر فیمل سکولر بنوں

ATTESTED
90
Copying Agency
Lower Court Banau
5-21-73

تعداد A دعویٰ بڑا دھور ڈگری استقراریہ برائے معین کم فائدہ معین اور علیہ معین

معمولہ جات سمیت تا دسمبر 2008ء میں جملہ Requirements Dse/Dpe پوری کرنے کے بعد بطور Pte, Pst، ٹیچر جوبلی

کیے ہیں۔ از تواریح معینی انوری فائدہ معین خیر القی منجہی ادا کرنے کے لیے پوری ہر انجام دے پیر دیگر Pst زمانہ و مردانہ کی مانند

نیما جات سابقہ مراعات Annual Increments

دستخواہ جات ریلیف کرنے مستحق ہیں مقدار میں مقدار قرار دیا جائے گا یا نہ تنخواہ جات ادا و عطا کرنے کے

کے مدعا علیہ یا بندہ ہیں یا بندہ بنایا جاوے گا

تنخواہ جات یا یا نہ ریلیف نہ کرنا ان Previous Awards

نہ دنیا، ان کا کرنا withheld کرنا ان اور لیکچرر کی

مقررہ وقت دادرسی کرنا ان افراد کو سولہ

دریگولیشنز سے استیاری سلوک پر مبنی ہر بدتمیزی افعال

فرد اور Mala Fide کے زمرے میں آتے ہیں معائنہ

ماہوار Monthly Salary ادا کرنے کے لئے ہر ماہ اس میں

پاکستان 1973ء آرٹیکل 25 کے تحتی افراد و وزری سے

لئے ان تمام و لیت دہلی Delay Take Thich حقوق ما

فائدہ معین پر غیر موثر و کالعدم ہے فائدہ معین قابل دادرسی میں

تعداد B دعویٰ بڑا دھور ڈگری یا بنا دھور یا جملہ تنخواہ جات

Previous Award از تواریح ڈیولٹی Joining

Handwritten signature and date 22/3/08

ATTESTED Copying Agency Lower Court Bahawalpur 21-173

نہ اس پر ذمہ اندازہ دھونیا جائیگا تاکفیدہ مقدمہ ...

نیز مدعا علیہ کو باہر بنا یا جاوے کہ وہ حدودہ legal obligation ادا کرنے سے
اداکرین اور ایسے فریقین عطا بق قانون ادا کرنے سے
معدوری ظاہر نہ کریں بحق مدعیان بر خلاف مدعا علیہ

فریق

دعویٰ مبلغ ڈگری حکم امتناعی دوامی دیا گیا بدین معنی کہ مدعا علیہ کو
تاکفیدہ بنا یا جاوے یا باہر بنا یا جاوے کہ وہ حدودہ جملہ رکارد لغتیبائی
وغیرہ ڈائری ڈیپٹی ریجنل جارج رپورٹس سیریکل سٹریٹس
ڈائری ڈیپٹی ریجنل جارج رپورٹس سیریکل سٹریٹس
افعال جملہ بروئے کار آئے ہیں یہ حدودہ legal obligation ادا کرنے
مدعیان کی خواہشات حاصل کریں اور کسی بھی قسم میں
کی فریقین منجھ میں غیر قانونی بدافیتی اور غیر انجمن رکاوٹ
نہ ڈالیں بحق مدعیان بر خلاف مدعا علیہ مقدمہ ...

Handwritten signature and notes on the right side of the page.

مالیت مقدم لوفی اختیار جماعت
ABC Rs 200+200+200

مالیت مقدم لوفی کورٹ فی
ABC Rs 15+15+15

صاحب عالی - دعویٰ مدعیان ذیل کے

1- یہ کہ مدعیان مدعا علیہ غرض سیکرٹری ایجوکیشن کی اپروپل سے مدعا علیہ
نہ بھود آئی ڈی ایچ کے پورے معاہدات کے تحت تا 2009 میں وقفہ
Dpe-Des Suprale Single اور ذریعہ Jointly
کیجی کی سفارشات پر کسی بھی صورت میں 18.0.09 سے کیجی سے

ATTESTED
Copying Agency
Lower Court Baur
21-773

2- یہ کہ مدعیان نے ڈائری سیکرٹری شہرہ پورہ کے عطا بق Appointment
orders ایسے ہی متعین شدہ سکولوں میں جملہ لوازمات

تعمیراتی بورسیہ کے بعد فراغتی منصفی سمجھائیے۔ تعمیراتی بورڈ کے تحت

3۔ یہ کہ عہدہ عیاشی کی طرح مدعا علیہ قبل ازین 2009ء میں 7066055050 تربیت یافتہ اور Untrained اساتذہ کرام کو بطور PTA/PST بطور تہہ کیے ہیں جو کہ وہ ماہ در ماہ تنخواہ جات بفریگی Tentative دلوں کرتے چلا آرہے ہیں۔

4۔ یہ کہ بعد از توریہ ڈیوٹی Joining سے قبل سٹیٹ بنگلہ بھارتیہ و دیگر باہر ایشیا مدعا علیہ بنوا کر مدعا علیہ کو حوالہ کیا ہے۔ PTA میٹرک انٹر میڈیٹ وغیرہ تعلیمی بورڈز سے لقمہ دیتی کر رہے ہیں۔ جمع کر دی گئی اور تنخواہ 50 ماہی ہونے لگی۔ مدعا علیہ نے اپنی وزارت سے حق نمبر اپنی ڈیوٹی جاری رکھنے کی سکتی فرمائیں گے۔ تعمیراتی بورڈ

Handwritten signatures and notes on the right margin, including the number 22.

5۔ یہ کہ مورخہ 18.11.09 سے مدعا علیہ پرانے دفعہ وقفہ میں Separate و Individuals آرڈرز کا درجہ مردانہ و زنانہ Categories کی توریہاں مختلف تواریخ پر لکھی ہیں جن میں زیادہ تر کو تنخواہوں سے نوازا گیا ہے اور ان کی تنخواہ جات ریٹائر ہو گیا ہے لیکن بعض اچھے تک عہدہ عیاشی کی مانند بفریگی معاش Labour ملتا ہے کہ وہ ہیں جو کہ لکھی گئی ہیں اور زیادتی میں مدعا علیہ کی سپرد معاہدہ ہیں اس لیے وہ ریگولر کنٹریڈیٹ یا ایسی اور ایسی پاکستان وظائف سے انحراف کر کے تنخواہ جات Current & Previous مجملہ ادائیگی کے ان میں روٹس اٹھاتے ہیں۔

ATTESTED
Copying Agency
Lower Court Bannu
21773

6۔ یہ کہ ایسے پاکستان 1973 اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی

تھو اجاب، معاوضہ۔ اوت ادا نہ کرنا اور بند کرنا رانا غمہ انہنی اور غمہ قانونی
 فرار دیا ہے۔ قانون اور آئین کی تناظر میں شکوہ عبات بند کرنا رانا اوت اوت
 لیا۔ معاوضہ نہ دنیا اور عبات اوت کی بغیر کسی نہ کام کرنا رانا Force
 Labour کا صورت میں آتا ہے جو کہ حلقہ غمہ شری غمہ انہنی اور غمہ
 قانونی بد اختیار اقدام ہیں اور اس قسم اقدام غمہ قانونی
 ماعدیناں پر عد علیہ ازمانا ہے جو کہ ماعدیناں پر غمہ موثر و حکم
 و کا لدر ہے۔

7۔ یہ کہ ماعدیناں عد علیہ 2-3-1 کوئی بار دفعہ میں گزاریں کہ بار بار
 راجہ کے حقت سماعت کی کہ ہزارا۔ ماعدیناں کو دیگر معیری شہ
 کی ہے
 Current Previous Accounts و ماہوار
 Running شکوہ عبات وغیرہ اور ایسی کا قلم ہمارا زبان ہمارے
 نگر عد علیہ مذکورہ بالا اور ایسی اور ایسی تو درکتا ماعدیناں کی
 صلہ ریکارڈز قوری و راجہ ات وغیرہ عبات تلف اور کم کرنا
 کہ درپ ہیں اسلئے انتہا کوشش، تنوائن نہ ملنے اور کوئی
 Relied نہ ملنے پر دعویٰ عذراں لغورت مدفق ہوگی۔

8۔ یہ کہ شہ دعویٰ ازمانہ چھنے وخی عبت از ریکارڈ ہم غمہ منتہ جملہ
 پیرا حوالہ جو کہ اختیار سماعت عدوت لغور کوہا ہے۔

9۔ یہ کہ حالت مقدم لغور کورت خست و اختیار سماعت راجہ لغور
 غمہ موثر ہے۔

ATTESTE
 Copvine Area
 over La...
 21773

الواری DSC-DPC کی سفارشات وغیرہ عدلیہ کے زیر مہربانی
تلف و ضابطے اور گم نہ کریں اور عدالت کی روایت سے قبل
ریکارڈز میں ڈالنے کے لئے پیش کرنے کے پابند ہیں

لیں استدعا ہے کہ ڈگری بحق عدلیہ

میر فخر محمد علیہ عمر و غیرہ عدلیہ اور راجا
ہا ہے

22/3/12

19-3-2012

مستاد نسیم وغیرہ عدلیہ

Handwritten signature and notes on the right side of the page.

نیراج دت (Arad) بخاری
انڈیا

Handwritten signature and notes in the middle-left section.

کچھ عدالت جمع 19/3/2012

ATTESTED
Copying Agency
Lower Court Banna
21-173

بازو راجا (Arad) کی جہتی ہے
کہ تعلیم مرشد وغیرہ عدلیہ کے لئے
علیم و لقیں کے دوست
اور

1. Registration No.	172
2. Date of Presentation	19-173
3. Date of Receipt	21-173
4. Date of Presentation	21-173
5. Date of Delivery	22-173
6. No. of Copies / Volume	600
7. Number of Pages	12
8. Charges	+
9. Total Fee	12
10. Signature of Copyist	Handwritten signature

مستاد نسیم وغیرہ عدلیہ

Handwritten signature at the bottom right.

21

(21)

5

BEFORE THE COURT OF CIVIL JUDGE NO. III

BANNU

5-1272 ^{مس} 22-372 (روغ) $\frac{96}{1}$ رتو

$\frac{2428}{12}$ رو

NASEEMA Etc

Versus

EDO (Education) etc

Replication on behalf of defendant 1 to 02 & 05

1. That the plaintiff has got no cause of action and locus standi to bring the present suit before this learned court.
2. That the present suit is not maintainable in its present form.
3. That the plaintiff has not come to the court with clean hands.
4. That the plaintiff has come to the court with mala fide intention / fraud.
5. That written statement may be considered as part and parcel of the replication.

0-34
3/5/12

(AURANG ZEB KHAN)
Civil Judge-V, Bannu.

Respectfully Sheweth:

1. Para No.01 of the application is correct to the extent that the suit of the plaintiff is pending adjudication before the learned court. Rest of the para is incorrect.
2. Para.No.02 of the application is incorrect.
3. Para No.03 is also incorrect whereas all the ingredients of temporary injunction are tilt in favour of the defendants / respondents.
4. Para No.04 of the application is also incorrect.
5. Para No.05 is also incorrect.

It is therefore requested that the application of applicant may be dismissed with cost.

Respondent/defendants 1,02 & 5

Through representative

Through Government Pleader

ATTESTED
Copying Agency
Lower Court Bannu
24773

22

BEFORE THE COURT OF CIVIL JUDGE NO. III BANNU.

5-1272, 22-372 (50), 46
Naseema

2428/16
12

Versus

EDO (Education) etc

Written statement on behalf of defendant No.01, 02 & 05

Preliminary objections:

1. That the plaintiff has got no cause of action and locus standi to bring the present suit before this learned court.
2. That the present suit is not maintainable in its present form.
3. That the plaintiff has not come to the court with clean hands.
4. That the plaintiff has come to the court with malafide intention and fraud.
5. That the present suit is also bad for mis-joinder and non-joinder of necessary parties.
6. That the appointment letter is fake one, and other documents is a result of fraud.
7. That since 2006, no female PST/PTC appointment have been made by the defendant No. 1 in district Bannu.
8. That the defendants have right to claim special cost from the plaintiff.
9. That the suit of the plaintiff is liable to be dismissed under order 17 rule 11.

0-4
3/5/12

(AURKAS...)
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Facts:-

1. Para NO. 01 of the plaint is wrong and malafide one. Further stated, for appointment of PTC teacher under rules no need of approval is necessary of the defendant No.2. PTC post is district cadre post. Defendant No.1 is competent to make appointment of PTC after the approval of DSC.

ATTESTED
Copying Agency
Lower Court Bannu
21-173

23

23

2. Para No.02 of the plaint is also incorrect. Further stated that the plaintiff have never been appointed by defendant No.1. Plaintiff No.3 also applied from Union council khander khan khel in the wake of advertisement dated: 18/02/2010 and has been placed in serial No.21. In this regard appointment has been made by defendant No.1 on 23/04/2012.
3. Para No.03 of the plaintiff is also incorrect and is based on exaggeration. As stated earlier, no female PTC teacher as ever been appointed except in 2006. Defendant No.1 made appointment of PTC female on 23/04/2012.
4. Para No.04 is also incorrect.
5. Para No.05 is also incorrect. The plaintiffs have never been appointed.
6. Para No.06 of the plaint is related to the constitution of Pakistan and the ruling of the apex court.
7. Para No.07 is also incorrect.
8. Para No.08 plaintiff has got no cause of action against the defendants.
9. Para No.09 is legal one.
10. Para No.10, since the plaintiffs have never been appointed by the defendants. No record of the plaintiffs exist.

0-4
3/5/13

Prayer:-

It is therefore requested that the plaint may be dismissed with cost.

Defendant 01,02 &05

Through Rep:

Through Government Pleader

Certificate

Certified that written statement/replication is correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed from the learned court.

Defendant No.01

ATTESTED
Copying Agency
Lower Court, Bahawalpur

21773

1. Date of Presentation of a petition	17/2
2. Date of Receipt	19/7/13
3. Date of Presentation	21/7/13
4. Date of Judgment	22/7/13
5. No. of Copies	300
6. Order Fee	6
7. Urgent Fee	8
8. Total Fee	14
9. Signature of Copyist	

Annexure-D

25


IN THE COURT OF AURANG ZEB KHAN, CIVIL JUDGE-V, BANNU.


Mst: Naseema Bibi etc VS Sec: Education Deptt: etc
Civil Suit No.46/1 of 2012

Order---10
05-12-2012

The learned counsel for the plaintiff is present.
No one is present on behalf of defendants. The perusal of
plaint shows that the plaintiffs are civil servants and in
this situation, this court has got no jurisdiction into the
matter in hand, therefore plaint is returned U/O-7 rule-10
CPC to be presented to the court in which the suit should
have been instituted. The Muharrir of this court is directed
to return the plaint in accordance with law File be
consigned to record room after completion.

Announced.
05-12-2012.


(Aurang Zeb Khan)
Civil Judge-V, Bannu.



- 1. Register No. 172
- 2. Date of Presentation of application 19-1-73
- 3. Date of Receipt of the file 21-1-73
- 4. Date of Presentation of Copy 21-1-73
- 5. Date of Delivery of Copy 22-1-73
- 6. No. of Copies made 100
- 7. Ordinate Fee 2
- 8. Urgent Fee 2
- 9. Total Fee 4
- 10. Signature of Copyist [Signature]

ATTESTED
AD
Copying Agency
Lower Court Bannu
21-1-73

گورنمنٹ ڈسٹرکٹ زمانہ اسپتال، کراچی سے ہوتی ہے۔

درخواست کنندہ نے اپنی طبی حالت اور علاج کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہیں۔
تعمیراتی کاموں کے لیے منظور شدہ رقم سے مزید کاموں کے

صاف علی -

تعمیراتی کاموں کے لیے منظور شدہ رقم

1۔ یہ کہ جس سال 2009 میں منظور شدہ رقم (تعمیراتی کاموں کے لیے) سے تعمیراتی کاموں کے لیے

2۔ یہ کہ جس سال 2009 میں منظور شدہ رقم (تعمیراتی کاموں کے لیے) سے تعمیراتی کاموں کے لیے

3۔ یہ کہ جس سال 2009 میں منظور شدہ رقم (تعمیراتی کاموں کے لیے) سے تعمیراتی کاموں کے لیے

Date: 15-2-2013
Provenance: Annex
عین

یہ سال 2009 میں منظور شدہ رقم (تعمیراتی کاموں کے لیے) سے تعمیراتی کاموں کے لیے

Handwritten signature and scribbles.

29-5-13
31-12-09

بعدالت جناب سر مہر علی کسروی کے در ضلع بھولہ

مقدمہ عنوان: سزا لبریں نام: ابو سعید حیدر

دعویٰ: ۱-۲

جرم:

مورخہ: 28.5.13 منجانب: اسد

وکالت نامہ

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسے پیروی و جواب دہی و کل کارروائی متعلقہ ان مقام بنوں کے لیے عمرزاد شاہ بخاری ایڈووکیٹ / پلیدر مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کامل اختیار ہو گا نیز وکیل صاحب کو راضی نامہ مقرر ثالث و فیصلہ پر حلف دئے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور بصورت ڈگری کرانے اجراء وصولی نقد بذریعہ چیک عرضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق زر اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہو گا نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری یک طرفہ یا اپیل کی برآمدی اور منسوخی دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہو گا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکورہ کے کل یا جزوی کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختیار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنی بجائے تقرر کا اختیار ہو گا اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ اختیارات حاصل ہونگے اور اس کا ساختہ پر داختم منظور و قبول ہو گا اور دوران مقدمہ میں جو خرچہ و ہرجانہ التوائے مقدمہ کے سبب سے ہو گا اس کے مستحق وکیل صاحب موصوف ہونگے نیز بقایا و خرچہ کی وصولی کرنے کا بھی اختیار ہو گا اگر کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو تو وکیل صاحب پابند ہونگے کہ پیروی مقدمہ مذکورہ کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھ دیا تاکہ سند رہے۔

مضمون وکالت سن لیا، اچھی طرح سمجھ لیا اور قبول و منظور ہے۔

Accepted

اسد

العبد

گواہ شد

لبریں

العبد

سزا لبریں

حضور ضابطہ چیمبر میں صاحب سرگرمیوں کے لئے پیش کیا
سیرین بیگم ایف ایم ایجوکیشن

دفعہ 132 عر ا د کے تحت اجازت تاریخ پیشی - 14/01/2014

بابت جمع کرنے کی کیوریٹی

محمد علی

جناب عالی! مقدمہ نمبر ان بار اعدالت حضور میں زیر التوا ہے ،
14/1/14 جس میں مورف 2014-01-14 تاریخ پیشی منظور ہے ،

۔۔۔ تاکہ مذکورہ تاریخ پر حیدر آباد انسٹیٹیوٹی میں ۔

۔۔۔ تاکہ عدالت کو دعائیں نہ کیوریٹی داخل کر ادانے بابت
نہیں بتایا تھا ۔

۔۔۔ تاکہ سٹوران مقدمہ بار میں کیوریٹی جمع کر دینا چاہی ہے ،

جو کہ پچھلی تاریخ پیشی جو کہ 2013-11-11 کا قلمی آفس تاریخ
کو بھی چھٹی تھی ۔

لہذا سٹوران / عدالت کو مقدمہ بار میں کیوریٹی جمع

کرنے کی اجازت دی جائے ۔


سٹوران حضور و سٹوران رہیں گے ۔

13/01/2014 (مختم)

محمد علی

سیرین بیگم دفتر راجہ علی خان

کے لئے ، بنوں ۔



200 Rupees ۲۰۰ روپیہ

کجرات جا - حضرت من صاحب کوئی ٹریبونل بٹسار

حکومت سرینہ بنام سرگرمی ایگوشی
سرورس ایس


ADILAH BATH
District Courts
11.13
R-750121
B

حکومت سرینہ دفتر عدو زوج نامید خان
عظیم علم
۱۵
انتخاب دینہ

ناید خان دلہ سعد اللہ خان راں دیرہ گل ولہ قلاب خان سگت
عظیم علم بر سرینہ ۱۵ غلط کدینوں -- انتخاب گریزنگان

جو لاری بوقت صحت بین عمل بجائی پیش دیوانی بدستور نمبر ۱
کے درجے میں نہ صرف نوچ پورہ نہیں کہ لکھنؤ - جی خان
میرت سے قاصر نیوں ہیں وجہ ایسا خاندانم سے نامید خان اور

دیرہ گل کو قسبانان خان ضرورت ہیں محتسب رانا قلاب کی اختیار
حاصل ہوگا کہ وہ ہمراہ سے اس دیرت میں - بدستور اس کے
دیں قرار دیں۔ دین و میں کہ نہیں - نگرانی میں
کجرات غلطی تک نہیں بیان دیوں گوریان سے جمع نہیں



Rupees 50 ۵۰ روپیہ

R2

گوایانہ کے لیے خرچہ جمع کروا کر کوشش کرتے ہوئے درود اور دعا سے بھی اہل کوشش
پر نذرانہ کر لو۔ فیصلہ پانچ ماہ کے لیے کیا جائے گا۔ یا صدقہ درود سے
نیز مسیحا دن خاص کو وہ تمام اشیاء اور سافہ پر درختہ حاصل ہے
جو وہ منقرہ کو حاصل ہے۔ لہذا محتیا رہنا فلاح کے لئے ضروری ہے۔
صرفہ ۵۶/۱۱/۲

السلام
صباحہ لیسریہ رضی اللہ عنہا

۱۱۱۵۱-۵۵۹۳۹۸۹

دیرہ گل محتیا رضی

السلام
نابید خان محتیا رضی

گوارہ سڈ - شاہ دراز خان ولہرز دروات سکندر

بازار احمد خان بیوں

BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL
KHYBER PAKHTOON KHWA, PESHAWAR
Service Appeal No. 948/2013

Basreen Bibi

V/S

Govt of KPK

PARA WISE COMMENTS ON BEHALF OF RESPONDENTS:

Respectfully Sheweth!

Preliminary Objection on the appeal:-

- 1- That the service appeal of the appellant is badly time bared.
- 2- That the appellant has got no cause of action and locus standi.
- 3- That the service appeal is bad for non joinder and mis joinder of the necessary parties.
- 4- That the service appeal is suffering from legal defect.
- 5- That the appellant claims her appointment order in December, 2009 while she files department appeal in 2013 which shows clear malafide intention on her part.
- 6- That the appointment order of the appellant is totally fake and having no record with the respondent.

FACTS

- a. Incorrect, the respondents have not made any appointment orders in 2009, hence respondents disown her appointment orders.
- b. Incorrect, the attendance is fictitious and fabricated and the same has not been signed / countersigned by ADO (Circle), Dy: D.O and DEO Bannu. The respondent conducted a fact flinging inquiry in which it is proved that no record with respect to the appellant appointment is available and the appointments orders are totally bogus. (Copy of the report is annexed as A)
- c. Incorrect as in above.
- d. The para related to court record.
- e. Incorrect.
- f. Incorrect.

GROUND:

Incorrect. The appellant is not entitled for any relief on the basis of bogus order.

F- Incorrect as per para No.2.


G- Incorrect.

H- Incorrect.


I- Incorrect. Respondents have treated the appellant in accordance with law.

J- No comments.

It is therefore, very humbly prayed that the service appeal of the appellant may very graciously be dismissed by this Honourable Tribunal.


District Education Officer (Female)
Bannu


Director
E & SE Peshawar


Secretary
E & SE Peshawar





Ammeethme A ~


OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE) BANNU

Subject: **Fact Finding inquiry report/investigation in service appeals titled Basreen Bibi, Samreena Bibi, Sohaila Zafar, Shehnaz Begum, Fehmida, Farhad Begum, Saira Bahader.**

It is submitted that the above titled service appeals are pending adjudication before the honourable service tribunal Peshawar. That all these service appeals of the appellants were thoroughly investigated/checked by this office but were found bogus, fake and having no record at all. The Endst: Nos present on their appointment orders are fake as well as record less.

Again, That this office has never issued single appointment orders except of court orders. The appointment orders claimed by the appellants are highly fabricated and record less. That the appellants try to enter in govt. Job with fraudulent means/sources. This department highly repudiates their appointment orders. That the dates/years in which they claim their appointment orders, it is pertinent to be mentioned here that this office has never made such orders in respect of female candidates, in the period/years which they claim.

1.  Member
2.  Member
3.  Member
4.  District
Chairman
Education Officer
Femal Bannu



Asstt. Distt. Office
(F) Primary Bannu

Copy to:

1. Registrar Peshawar High Court Peshawar Bench Bannu.
2. Registrar KPK Service Tribunal Peshawar.
3. Senior Govt. Pleader KPK Tribunal Peshawar.
4. Senior Govt. Pleader District Court Bannu.

BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL
KHYBER PAKHTOON KHWA, PESHAWAR

Service Appeal No. 948 /2013

Basreen Bibi (Appellant)
V/S

Govt of Khyer Pakhtunkhwa

AFFIDAVIT

I, Mr. Ashrafallah Khan ADO (Litigation), do hereby solemnly affirm and declare on Oath that the contents of the comments / reply are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Honourable Tribunal

Deponent.

Ashraf

4- جب ہری جو سول کورٹ نیوٹن سٹینڈنٹس کی درخواست پر، اسٹینڈنٹ کورٹس
ٹریبونل کی حد ریفریس تو دیکھیں کہ اسٹینڈنٹ ہریو قانون سول
سرورنٹ Declarat ہو چکا ہے۔۔۔ نیز ہریو سٹینڈنٹس کی ہریو ٹریبونل سے کسی قسم

5- فرقہ فرقہ جو این دعویٰ ہے اسٹینڈنٹس کی اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ
کو لٹیٹور کورٹس اسٹینڈنٹس کی اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ
Refect کیا ہے۔ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ

6- فرقہ فرقہ کا بابت لکھی ہے کہ ہریو قانون و لکھی ہے۔ عدالت کی کورٹس ہریو
7- اسٹینڈنٹ Salaris و Manthly pay کا فرقہ ہریو
Grounds


A- فرقہ فرقہ جو این دعویٰ ہے اسٹینڈنٹس کی اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ
اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ
کا اختیار اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ

B- فرقہ فرقہ کا فضل جواب من اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ
اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ

C- فرقہ فرقہ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ
اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ
اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ

اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ
اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ
اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ

اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ
اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ
اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ اسٹینڈنٹ



BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL
KHYBER PAKHTOON KHWA, PESHAWAR

Service Appeal No. 948/2013

Basreen Bibi

V/S

Govt of KPK

PARA WISE COMMENTS ON BEHALF OF RESPONDENTS:

Respectfully Sheweth!

Preliminary Objection on the appeal:-

- 1- That the service appeal of the appellant is badly time bared.
- 2- That the appellant has got no cause of action and locus standi.
- 3- That the service appeal is bad for non joinder and mis joinder of the necessary parties.
- 4- That the service appeal is suffering from legal defect.
- 5- That the appellant claims her appointment order in December, 2009 while she files department appeal in 2013 which shows clear malafide intention on her part.
- 6- That the appointment order of the appellant is totally fake and having no record with the respondent.

FACTS

- a. Incorrect, the respondents have not made any appointment orders in 2009, hence respondents disown her appointment orders.
- b. Incorrect, the attendance is fictitious and fabricated and the same has not been signed / countersigned by ADO (Circle), Dy: D.O and DEO Bannu. The respondent conducted a fact flinging inquiry in which it is proved that no record with respect to the appellant appointment is available and the appointments orders are totally bogus. (Copy of the report is annexed as A)
- c. Incorrect as in above.
- d. The para related to court record.
- e. Incorrect.
- f. Incorrect.

GROUND:

Incorrect. The appellant is not entitled for any relief on the basis of bogus order.

F- Incorrect as per para No.2.

G- Incorrect.

H- Incorrect.

I- Incorrect. Respondents have treated the appellant in accordance with law.

J- No comments.

It is therefore, very humbly prayed that the service appeal of the appellant may very graciously be dismissed by this Honourable Tribunal.

Mmm 22
District Education Officer (Female)

Bannu

[Signature]
Director

E & SE Peshawar *[Signature]*

[Signature]
Secretary
E & SE Peshawar





Annex: "A"


OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE) BANNU

Subject: **Fact Finding inquiry report/investigation in service appeals titled Basreen Bibi, Samreena Bibi, Sohaila Zafar, Shehnaz Begum, Fehmida, Farhad Begum, Saira Bahader.**

It is submitted that the above titled service appeals are pending adjudication before the honourable service tribunal Peshawar. That all these service appeals of the appellants were thoroughly investigated/checked by this office but were found bogus, fake and having no record at all. The Endst: Nos present on their appointment orders are fake as well as record less.

Again, That this office has never issued single appointment orders except of court orders. The appointment orders claimed by the appellants are highly fabricated and record less. That the appellants try to enter in govt. Job with fraudulent means/sources. This department highly repudiates their appointment orders. That the dates/years in which they claim their appointment orders, it is pertinent to be mentioned here that this office has never made such orders in respect of female candidates, in the period/years which they claim.

1.  Member
2.  Member
3.  Member
4.  District
Chairman
Education Officer
Femal Bannu



Asstt: Distt: Office
(F) Primary Bannu

Copy to:

1. Registrar Peshawar High Court Peshawar Bench Bannu.
2. Registrar KPK Service Tribunal Peshawar.
3. Senior Govt. Pleader KPK Tribunal Peshawar.
4. Senior Govt. Pleader District Court Bannu.

4- جب ہری جی سے لوری ٹیوی اسٹیشنڈنس کی درخواست پر، اسٹیشنڈنس کو روک کر بیٹونل ایف ڈی ریفرس کیا تو عدالت نے کہا کہ اسٹیشنڈنس ہری جی قانون سے لوری ٹیوی سے روکنا *Declaratory* ہو چکا ہے۔

5- فرقہ واریت جو اب دعویٰ ہے اسٹیشنڈنس ہری جی سے اسٹیشنڈنس اسٹیشنڈنس کو لوری ٹیوی سے روک کر بیٹونل ایف ڈی ریفرس کیا گیا ہے۔

6- فرقہ واریت کا بابت لینی ہے کہ ہری جی قانون و علیٰ غایہ عدالت کی لوری ٹیوی سے روک کر بیٹونل ایف ڈی ریفرس کیا گیا ہے۔

Manthly Day سے لوری ٹیوی سے روک کر بیٹونل ایف ڈی ریفرس کیا گیا ہے۔
Grounds

A- فرقہ واریت جو اب دعویٰ ہے اسٹیشنڈنس ہری جی سے لوری ٹیوی سے روک کر بیٹونل ایف ڈی ریفرس کیا گیا ہے۔ اسٹیشنڈنس ہری جی سے لوری ٹیوی سے روک کر بیٹونل ایف ڈی ریفرس کیا گیا ہے۔ اسٹیشنڈنس ہری جی سے لوری ٹیوی سے روک کر بیٹونل ایف ڈی ریفرس کیا گیا ہے۔

B- فرقہ واریت جو اب دعویٰ ہے اسٹیشنڈنس ہری جی سے لوری ٹیوی سے روک کر بیٹونل ایف ڈی ریفرس کیا گیا ہے۔ اسٹیشنڈنس ہری جی سے لوری ٹیوی سے روک کر بیٹونل ایف ڈی ریفرس کیا گیا ہے۔ اسٹیشنڈنس ہری جی سے لوری ٹیوی سے روک کر بیٹونل ایف ڈی ریفرس کیا گیا ہے۔

C- فرقہ واریت جو اب دعویٰ ہے اسٹیشنڈنس ہری جی سے لوری ٹیوی سے روک کر بیٹونل ایف ڈی ریفرس کیا گیا ہے۔ اسٹیشنڈنس ہری جی سے لوری ٹیوی سے روک کر بیٹونل ایف ڈی ریفرس کیا گیا ہے۔ اسٹیشنڈنس ہری جی سے لوری ٹیوی سے روک کر بیٹونل ایف ڈی ریفرس کیا گیا ہے۔



Handwritten signature or name at the bottom left of the page.